

ROOTWORDS OF SURAH AL IMRAN 190-200

مُنَادِيًا	أَنْصَارٍ	أَخْزَىٰ + ت + هُوَ	ف + ق + نَا	جُنُوبٍ + هِمُّ
ن د و	ن ص ر	خ ز ي + ضمير + ضمير مفعول	حرف + وق ي + ضمير	ج ن ب + ضمير
ایک پکارنے والے کو	مددگار	ر سوا کیا + تونے + اس کو	پس + بچا + ہم کو	پہلوؤں کے + اپنے
A caller	Helpers	You (have) disgraced him	So save us	their sides

الْمِيعَادَ	تُخْزِ + نَا	الْأَبْرَارِ	تَوَفَّ + نَا	سَيِّئَاتٍ + نَا
و ع د	خ ز ي + ضمير	ب ر ر	و ف ي + ضمير	س و ا + ضمير
وعدے کو	تور سوا کر + ہم کو	نیک لوگوں کے	فوت کر + ہمیں	برائیاں + ہماری
The promise	disgrace us	The righteous	Cause us to die	our evil deeds

الْمِهَادُ	تَقَلُّبُ	يَغُرَّنَّ + كَ	أُوذُوا	أُضِيعُ
م ه د	ق ل ب	غ ر ر + ضمير	أ ذ ي مجهول	ض ي ع
ٹھکانہ	چلنا پھرنا	دھوکے میں ڈالے + تجھ کو	وہ اذیت دیے گئے	میں + ضائع کروں گا
The resting place	The movement	deceive you	were harmed	Let go waste

رَابِطُوا	سَرِيعُ	خَاشِعِينَ
ر ب ط	س ر ع	خ ش ع
تیار رہو۔ آمادہ رہو۔ باہم رابطہ رکھو	جلد لینے والا ہے	ڈرنے والے ہیں
Be constant	Swift	humbly submissive

www.azharulquran.com